

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِ آيَاتٍ وَثَلَاثِينَ رُكُوعًا

سورہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں چھبیا نوے آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا

جب ہوے گی وہ ہونے والی اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو

كَادِبَةٌ ۝۲ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝۳ اِذَا سُرَّجَتْ

انکار کی گنجائش نہ ہوگی کسی کو سبت کرنے والی کسی کو بند کی دینے والی جب زمین

الْاَرْضُ رَجًا ۝۴ وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝۵

کانپے کی مٹھرتھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پورا ہو کر

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۝۶ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا

جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوتے اور تم تین قسم

ثَلَاثَةً ۝۷ فَاَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝۸ مَا اَصْحَابُ

کے ہو جاؤ گے تو دائیں طرف والے کیسے دائیں طرف

الْيَمِينِ ۝۹ مَا اَصْحَابُ الشُّعْبَةِ ۝۱۰ مَا

دائیں اور بائیں طرف والے کیسے

أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۙ وَالسَّابِقُونَ ۙ

بائیں طرف والے اور جو سبقت لے گئے وہ تو

السَّابِقُونَ ۙ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۗ فِي

سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ ہیں چین

جَنَّتِ النَّعِيمِ ۗ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۗ

کے باغوں میں انگوٹوں میں سے ایک گروہ

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۗ عَلَىٰ سُرُرٍ

اور کچھیلوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر

مَوْضُوعَةٍ ۗ مُتَكِينِينَ عَلَيْهِمُ الْمُتَّقِبِينَ ۗ

ہوں گے ان پر نیکی لگاتے ہوئے آمنے سامنے

يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَدَّدُونَ ۗ

ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ

کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے

مَعِينٍ ۗ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا

بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں دردِ سر ہو نہ ہوش میں

يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةً مَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾
 فرق آنے اور میوے جو پسند کریں

وَلَحْمَ طَيْرٍ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ
 اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں اور بڑی آنکھ

عَيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾
 والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ
 صلہ ان کے اعمال کا اس میں نہ سنیں گے نہ

فِيهَا لَغْوٌ وَأَلْمَازٍ ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا
 کوئی بیکار بات نہ گنہگاری ہاں یہ کہنا ہوگا سلام

سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ مَا أَصْحَابُ
 سلام اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف

الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظَلْمٍ
 والے بے کانٹوں کی ہیرلیوں میں اور کیلے

مَنْضُودٍ ﴿٣٠﴾ وَظِلِّ مَسْدُودٍ ﴿٣١﴾ وَمَاءٍ
 گچھوں میں اور ہمیشہ کے سانسے میں اور ہمیشہ

فَسُكُوتٌ ۙ وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ۚ لَا تَقْطُوعُهَا ۙ

جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں

وَلَا مَدْنُوعَةٌ ۙ وَفَرَشَ مَرْفُوعَةٌ ۙ

اور نہ روکے جائیں اور بلند پگھولوں میں

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۙ فَجَعَلْنَاهُنَّ

بے شک ہم نے ان عورتوں کو ابھی اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے

أَبْكَارًا ۙ عَرَبًا أْتْرَابًا ۙ لِرَأْصِصٍ الْيَمِينِ ۙ

شوہر پر پیاریاں انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں داہنی طرف والوں کے لیے

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ۙ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ

انگولوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے

الْآخِرِينَ ۙ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۙ مَا

ایک گروہ اور بائیں طرف والے کیسے

أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۙ فِي سَمُومٍ وَحَدِيمٍ ۙ

بائیں طرف والے جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں

وَوَظَلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۙ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۙ

اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی

اِنَّكُمْ كَانْتُمْ اَقْبِلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٣٥﴾
 بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے

وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْجَنَّةِ
 اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے

الْعَظِيمِ ﴿٣٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ اَبَدًا امْتِنَا
 تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مرتا ہیں

وَكَانُوا تَرَاءِبًا وَعِظَامًا اِنَّا لَبَعُوثُونَ ﴿٣٧﴾
 اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھاتے جائیں گے

اَوْ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِينَ
 اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی تم فرماؤ بے شک سب اگلے

وَالْاٰخِرِينَ ﴿٣٩﴾ لَبِجُوعُونَ اِلَىٰ مِيقَاتِ
 اور پیچھے ضرور اکٹھے کئے جائیں گے ایک جگہ ہوتے

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ اِيَّهَا الصَّالُّونَ
 دن کی میعاد پر پھر بے شک اے گمراہو

الْمَكْدُبُونَ ﴿٤١﴾ لَا تَكُلُوْنَ مِنْ شَجَرِ
 بھٹلانے والو ضرور تھوہر کے پیڑ میں سے

مَنْ زُقُوهُ ۝۵۲ فَاَلْوُنْ مِنْهَا الْبُطُونُ ۝۵۳
 کھاؤ گے پھر اس سے پیٹ بھرو گے

فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝۵۴ فَشَرِبُونَ
 پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے پھر ایسا پیو گے

شَرِبَ الْهَيْمِ ۝۵۵ هَذَا نَزَلَهُمْ يَوْمَ
 جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے یہ ان کی مہمانی ہے انصاف

الذَّيْنِ ۝۵۶ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا
 کے دن ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں

تَصَدَّقُونَ ۝۵۷ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۝۵۸
 سچ مانتے تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝۵۹
 کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا
 ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم

نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ۝۶۰ عَلَىٰ اَنْ
 اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور

تَبَدَّلْ أَمْثَالَكُمْ وَنُشُكُمْ فِي مَا لَا
 بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں

تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
 نمبر نہیں اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان

فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
 پھر کیوں نہیں سوچتے تو بھلا بتاؤ تو جو

تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ
 بولتے ہو تو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو

نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ
 یا ہم بنانے والے ہیں ہم چاہیں تو روندن

حُطَّامًا فظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا
 کر دیں پھر تم باہیں بناتے رہ جاؤ ہم

لَدُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾
 پر چٹی پٹری بلکہ ہم بے نصیب رہے

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾
 تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو

أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ

کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں

الْمُزِلُونَ ﴿٤٩﴾ لَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ أَجَا فُلُوقًا

اتارنے والے ہم چاہیں تو اُسے کھاری کر دیں پھر کیوں

لَا تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي

نہیں شکر کرتے تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن

تُورُونَ ﴿٥١﴾ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ

کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا

نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٥٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا

ہم ہیں پیدا کرنے والے ہم نے اُسے جہنم کا

تَذِكْرًا وَمَتَاعًا لِلْبَاقِينَ ﴿٥٣﴾ فَسَبِّحْ

یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ تو اُسے محبوب تم

بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٤﴾ فَلَا أَسْمَ بِدُوقٍ

پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں

الذُّجُورِ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّ لِقَسَمٍ لَّو تَعْلَمُونَ

تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم

عَظِيمٌ ۞۶۹ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۞۷۰ فِي كِتَابٍ

ہے بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ

مَكْنُونٌ ۞۷۱ لَا يَسُـَٔرُ اِلَّا الْمَطَّهِرُونَ ۞۷۲

میں اسے نہ چھوئیں مگر با وضو

تَنْزِيلٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۞۷۳ اَفَبِهَذَا

اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا تو کیا اس

الْحَدِيثِ اَنْتُمْ قَدْ هِنُونَ ۞۷۴ وَتَجْعَلُونَ

بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ

رِزْقَكُمْ اَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ۞۷۵ فَلَوْلَا اِذَا

یہ کہتے ہو کہ جھٹلاتے ہو پھر کیوں نہ ہو جب

بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۞۷۶ وَاَنْتُمْ حِينِيذٍ

جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ

تَنْظُرُونَ ۞۷۷ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ

رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر

وَلٰكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ۞۷۸ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ

تمہیں نگاہ نہیں تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں

غَيْرَ مُدْبِرِينَ ۝۸۷ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ
بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم

صَادِقِينَ ۝۸۸ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ
سچے ہو پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں

الْبُقَرِيِّينَ ۝۸۹ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۝۹۰
سے ہے تو راحت ہے اور بھول اور چین کے باغ

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝۹۱
اور اگر داہنی طرف والوں سے ہو

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝۹۲
تو اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی طرف والوں سے اور اگر

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۝۹۳
بھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو

فَنَزَّلْنَا مِنْ حَمِيمٍ ۝۹۴ وَتَصْلِيَةٌ مِنْ جَمِيمٍ ۝۹۵
تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا یہ بے شک

لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝۹۶ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۹۷
اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پائی بولو